

Num

Chapter 22

Urdu Interlinear

Reference: Urdu Geo Version

1	וִיסְעוּ	בְּנֵי	יִשְׂרָאֵל	וַיִּחַנּוּ	בְּעַרְבוֹת	מוֹאָב	מֵעֵבֶר	לְיַרְדֵּן	יִרְחוֹ:	ס
	اور-کوچ-کیا	بنی	اسرائیل	اور-خیمہ-لگایا	میدانوں-میں	موآب	پار	یردن-کے	یرحو	-
	H5265		H3478	H2583	H6160	H4124	H5676	H3383	H3405	

ہوئے۔ زن خیمہ سامنے آمنے کے یرحو پر کنارے مشرقی کے یردن دریائے کر پہنچ میں میدانوں کے موآب اسرائیلی بعد کے اس

2	וַיֵּרָא	בְּלֶק	בֶּן-	צִפּוֹר	אֵת	כָּל-	אֲשֶׁר-	עָשָׂה	יִשְׂרָאֵל	לְאַמְרֵי:
	اور-دیکھا	بلق	بن-	صفور	کو	سب-	جو-	کیا	اسرائیل	اموری-کو
	H7200	H1111		H6834	H0853	H3605		H3478	H0567	

ہے۔ کیا کچھ کیا ساتھ کے اموریوں نے اسرائیلیوں کہ ہوا معلوم کو صفور بن بلق بادشاہ کے موآب

3	וַיִּנְדַּר	מוֹאָב	מִפְנֵי	הָעַם	מְאֹד	כִּי	רַב-	הוּא	וַיִּקְרַץ	מוֹאָב	מִפְנֵי	בְּנֵי
	اور-ڈرا	موآب	سامنے-سے	قوم	بہت	کیونکہ	بہت-	وہ	اور-اکتایا	موآب	سامنے-سے	بنی
	H4124	H4124	H6440		H3966			H1931	H6973	H4124	H6440	

יִשְׂרָאֵל:
اسرائیل
[H3478](#)

گئی۔ چھا دہشت پر اُن لئے اس ہیں، زیادہ بہت اسرائیلی کہ دیکھا بھی یہ نے موآبیوں

4	וַיֵּאמֶר	מוֹאָב	אֶל-	זְקִנָיו	מְדִינָיו	עֲתָה	יִלְחָכוּ	הַקְּהָלִי	אֶת-	כָּל-	סְבִיבֹתָיו
	اور-کہا	موآب	سے-	بزرگوں	مدیان	اب	چاٹ-جائے-گی	جماعت	کو-	سب-	ہمارے-ارد-گرد
	H0559	H4124	H0413	H2205	H4080	H6258	H3897	H6951	H0853	H3605	H5439

	כִּלְחָדָיו	הַשּׂוֹר	אֵת	יִרַק	הַשָּׂדֶה	וּבְלֶק	בֶּן-	צִפּוֹר	מֶלֶךְ:	לְמוֹאָב	בְּעֵת	הַהוּא:
	جیسے-چاٹتا-ہے	بیل	کو	سبزی	میدان	اور-بلق	بن-	صفور	بادشاہ	موآب-کا	وقت-میں	اُس
	H3897	H7794	H0853	H3418		H1111		H6834	H4428	H4124	H6256	H1931

جاتا کر چٹ گھاس کی میدان بیل طرح جس گا جائے کر چٹ علاقہ کا گرد ارد ہمارے طرح اس ہجوم یہ [] اب کی، بات سے بزرگوں کے میدانوں نے انہوں ہے۔

5	וַיִּשְׁלַח	מְלָאכִים	אֶל-	בְּלָעַם	בֶּן-	בְּעוֹר	פְּתוּרָה	אֲשֶׁר	עַל-	הַנְּהָר	אֶרֶץ	בְּנֵי-
	اور-بھیجا	قاصد	پاس-	بلعام	بن-	بعور	فتور	جو	پر-	دریا	سرزمین	بنی-
	H7971	H4397	H0413			H1160	H6604			H5104	H0776	

	עַמּוֹ	לְקִרְאָ-	לְוָ	לְאֹמֵר	הִנֵּה	עַם	יֵצֵא	מִמִּצְרַיִם	הִנֵּה	כְּסָה	אֶת-	עֵין
	اُس-کی-قوم	بلانے-	اُسے	کہتے-ہوئے	دیکھو	قوم	نکلی	مصر-سے	دیکھو	ڈھانپ-لیا	کو-	آنکھ
		H7121		H0559	H2009		H3318	H4714	H2009	H3680	H0853	

הָאֶרֶץ
سرزمین
اور-وہ
بسایہ
میرے-سامنے
[H1931](#)
[H0776](#)
[H3427](#)
[H4136](#)

کے اُس لئے کے بلانے اُسے قاصد تھا۔ رہتا میں وطن اپنے بعور بن بلعام جہاں اور تھا واقع پر فرات دریائے جو بھیجے کو شہر فتور قاصد اپنے نے بلق تب ہے۔ بوئی آباد ہی قریب میرے کر چھا پر زمین زوئے جو ہے اُنی نکل سے مصر قوم [] ایک سنایا، پیغام کا بلق اُسے اور پہنچے پاس

12	וַיֹּאמֶר	אֱלֹהִים	אֵל-	בְּלַעַם	לֹא	תִלְוֶה	עִמָּהֶם	לֹא	תֵאָר	אֶת-	הָעָם	כִּי
	اور-کہا	خدا	سے-	بلعام	نہ	جا	ان-کے-ساتھ	نہ	لعنت-کر	کو-	قوم	کیونکہ
	H0559	H0430	H0413		H3808	H3212	H3808	H0779	H0853			
	בְּרוּךְ	הוּא:										
	برکت-یافتہ	وہ										
	H1288	H1931										

ہے۔ [برکت میری پر اُن کیونکہ ہے، نہیں اجازت کی بھیجنے لعنت پر اُن تجھے جانا۔ نہ ساتھ کے] اُن کہا، سے بلعام نے رب

13	וַיִּקַּם	בְּלַעַם	בַּבֶּקֶר	וַיֹּאמֶר	אֵל-	שָׂרִי	בְּלֹק	לְכוּ	אֵל-	אֲרַצְכֶם	כִּי	מֵאֵן
	اور-اُٹھا	بلعام	صبح-کو	اور-کہا	سے-	سرداروں	بلق	جاؤ	اپنی-	سرزمین-کو	کیونکہ	انکار-کیا
	H3068	H3688	H1242	H0559	H0413	H8269	H1111	H3212	H0413	H0776		H3985
	יְהוָה	לְהוֹדִי	לְהִלָּךְ	עִמָּכֶם:								
	یہوواہ	دینا-کو-مجھے	جانے	تمہارے-ساتھ								
	H3068	H5414	H1980									

نہیں اجازت کی جانے ساتھ کے آپ مجھے نے رب کیونکہ جائیں، چلے واپس وطن [اپنے کہا، سے سرداروں کے بلق نے اُس تو اُٹھا جاگ بلعام صبح اگلی دی۔]

14	וַיִּקְדְּמוּ	שָׂרֵי	מוֹאָב	וַיִּבְּאוּ	אֵל-	בְּלֹק	וַיֹּאמְרוּ	מֵאֵן	בְּלַעַם	הָלַךְ	עִמָּנוּ:
	اور-اُٹھے	سردار	موآب	اور-آئے	پاس-	بلق	اور-کہا	انکار-کیا	بلعام	جانے	ہمارے-ساتھ
	H8269	H4124	H0935	H0413	H1111	H0559	H3985	H1980			

ہے۔ [کرتا انکار سے آئے ساتھ ہمارے] بلعام کہا، نے انہوں آئے۔ واپس پاس کے بلق ہاتھ خالی سردار موآبی چنانچہ

15	וַיִּסְרַף	עוֹד	בְּלֹק	שָׁלַח	שָׂרִים	רָבִים	וַיִּבְכְּדִים	מֵאֵלֶיהָ:
	اور-بھر-کیا	بھر	بلق	بھیجنا	سردار	زیادہ	اور-عزت-والے	ان-سے
	H3254	H5750	H1111	H7971	H8269	H3513	H0428	

تھے۔ زیادہ سے لحاظ کے عہدے اور تعداد نسبت کی والوں پہلے جو بھیجے سردار اور نے بلق تب

16	וַיִּבְּאוּ	אֵל-	בְּלַעַם	וַיֹּאמְרוּ	לֹא	כֹה	אָמַר	בְּלֹק	בֶּן-	צְפוֹר	אֵל-	נָא	תִּמְנַע
	اور-آئے	پاس-	بلعام	اور-کہا	اُسے	یوں	کہتا-ہے	بلق	بن-	صفور	مت-	ذرا	روکا-جا
	H0935	H0413		H0559		H3541	H0559	H1111		H6834	H0408	H4994	H4513
	מִהָלַךְ	אֵלַי:											
	آنے-سے	میرے-پاس											
	H1980	H0413											

روکے، نہ سے آئے پاس میرے کو آپ بات بھی کوئی کہ ہیں کہتے صفور بن [بلق لگے، کہنے کر جا پاس کے بلعام وہ

17	כִּי-	כַבֵּד	אֲכַבְדֶּךָ	מְאֹד	וְכָל	אֲשֶׁר-	הֵאמַר	אֵלַי	אֵינִישָׁה	וְלִכְהֹ-	נָא	
	کیونکہ-	عزت-کرنا	عزت-کروں-گا-تیری	بہت	اور-سب	جو-	کہے-گا-تُو	مجھے	کروں-گا	اور-آ-	ذرا	
		H3513	H3513	H3966	H3605		H0559	H0413		H3212	H4994	
	קָבַח-	לִי	אֶת	הָעָם	הַזֶּה:							
	لعنت-کر-	میرے-لیے	کو	قوم	اِس							
	H6895	H0853		H2088								

بھیجیں۔ [لعنت پر لوگوں اُن لئے میرے اور سہی تو آئیں ہوں۔ تیار لئے کے کرنے میں گے کہیں بھی جو آپ گا۔ دوں انعام بڑا کو آپ میں کیونکہ

18	וַיַּעַן	בְּלַעַם	וַיֹּאמְרוּ	אֵל-	עַבְדֵי	בְּלֹק	אִם-	יִתֵּן-	לִי	בְּלֹק	מִלֵּא	בֵּיתוֹ
	اور-جواب-دیا	بلعام	اور-کہا	سے-	خادموں	بلق	اگر-	دے-	مجھے	بلق	بھرا	اپنا-گھر
			H0559	H0413	H5650	H1111	H5414	H1111	H4393			

	כֹּסֶף	וְזָהָב	לֹא	אוֹכְלִי	לְעֵבֵר	אֶת-	פִּי	יְהוָה	אֱלֹהֵי	לְעֲשׂוֹת	קִטְנָה	אִו
	چاندی	اور-سونا	نہ	سکتا	نالنا	کو-	حکم	یہوواہ	میرے-خدا	کرنے	چھوٹی	یا
	H3701	H2091	H3808	H3201	H0853	H6310	H3068	H0430				

نَدוּלָה:
بڑی

کر نہیں ورزی خلاف کی فرمان کے خدا اپنے رب میں تو بھی دے مجھے بھی کر بھر سے سونے اور چاندی کو محل اپنے بلق [] اگر دیا، جواب نے بلعام لیکن بڑی یا بو چھوٹی بات خواہ سکتا،

19	וְעַתָּה	שָׁבוּ	נָא	בְּנֵה	נָם-	אַתֶּם	הַלַּיְלָה	וְאֲדַעָה	מָה-	יֹסֵף	יְהוָה	דִּבְרֵךְ
	اور-اب	رہو	ذرا	یہاں	بھی-	تم	رات	اور-جانوں	کیا-	مزید-کہے-گا	یہوواہ	بولنا
	H6258	H3427	H4994	H2088	H1571	H3915	H3045	H4100	H3254	H3068	H1696	

עֲמִי:
مجھ-سے

[] بتاتا کچھ کیا مزید مجھے رب کہ گا کروں معلوم میں اتنے گزاریں۔ یہاں رات طرح کی سرداروں دوسرے آپ

20	וַיָּבֵא	וְאֱלֹהִים	אֵל-	בְּלַעַם	לַיְלָה	וַיֹּאמְרוּ	לֹא	אִם-	לְקַרְא	לְךָ	בָּאוּ	הָאֲנָשִׁים
	اور-آیا	خدا	پاس-	بلعام	رات	اور-کہا	اُسے	اگر-	بلانے	تجھے	آئے-ہیں	آدمی
	H0935	H0430	H0413	H0559	H3915	H0559	H7121	H0935	H0376			

	קוים	לְךָ	אַתֶּם	וְאֵד	אֶת-	הַדְּבָר	אֲשֶׁר-	אֲדַבֵּר	אֵלֶיךָ	אֵתוֹ	תַּעֲשֶׂה:
	اُنھ	جا	اُن-کے-ساتھ	اور-صرف	کو-	بات	جو-	بولوں	تجھ-سے	وہی	کر
	H3212	H0854	H0389	H0853	H1697	H1696	H0413	H0853			

[] بتاؤ تجھے میں جو کرنا کچھ وہی صرف لیکن جا۔ چلا ساتھ کے اُن لئے اس میں آئے بلانے تجھے آدمی یہ [] چونکہ کہا، اور ہوا ظاہر پر بلعام اللہ رات اُس گا۔

21	וַיָּקָם	بְּלַעַם	בִּזְקָר	וַיִּחַבֵּשׁ	אֶת-	אֶתְנֹו	וַיִּלְךָ	עִם-	שָׂרֵי	מוֹאָב:
	اور-اُنھا	بلعام	صبح-کو	اور-باندھا	کو-	اپنی-گدھی	اور-گیا	ساتھ-	سرداروں	موآب
	H1242	H2280	H0853	H0860	H3212	H4124	H8269			

[] پڑا۔ چل ساتھ کے سرداروں موآبی اور کسا زین پر گدھی اپنی کر اُنھ نے بلعام کو صبح

22	וַיַּחֲרֶ-	אַף	אֱלֹהִים	כִּי-	הוֹלֵךְ	הוּא	וַיִּתְיַצֵּב	מִלְאַךְ	יְהוָה	בְּדֶרֶךְ	לְשֹׁטָן
	اور-بھڑکا-	غضب	خدا	کیونکہ-	جا-رہا-تھا	وہ	اور-کھڑا-ہوا	فرشتہ	یہوواہ	راستے-میں	مخالف-بن-کر
	H2734	H0639	H0430	H1980	H1931	H3320	H4397	H3068	H1870	H7854	

	לֹא	וְהוּא	רָכַב	עַל-	אֶתְנֹו	וְשָׂנִי	נִעְרָיו	עִמּוֹ:
	اُسے	اور-وہ	سوار-تھا	پر-	اپنی-گدھی	اور-دو	اُس-کے-نوکر	اُس-کے-ساتھ
	H1931	H7392	H0860	H8147	H5288			

[] اُس اور تھا سوار پر گدھی اپنی بلعام گیا۔ بو کھڑا میں راستے لئے کے کرنے مقابلہ کا اُس فرشتہ کا اُس لئے اس ہے، رہا جا وہ کہ ہوا غصے نہایت اللہ لیکن تھے۔ رہے چل ساتھ کے اُس نوکر دو کے

23	וַתֵּרָא اور-دیکھا H7200	הָאֵתוֹן گدھی H0860	אֶת- کو- H0853	מְלֹאָךְ فرشتہ H4397	יְהוָה یہوواہ H3068	נֶצְבָב کھڑا-بوا H5324	בְּרֶךְךָ راستے-میں H1870	וַחֲרָבוּ اور-اُس-کی-تلوار H2719	שְׁלוּפָה کھنچی-بوئی H8025	בְּיָדוֹ اُس-کے-ہاتھ-میں H3027
----	--------------------------------	---------------------------	----------------------	----------------------------	---------------------------	------------------------------	---------------------------------	--	----------------------------------	--------------------------------------

וַתֵּט اور-مڑی H5186	הָאֵתוֹן گدھی H0860	מִן- سے- H1870	הַרְבֵּךְ راستہ H1870	וַתִּלָּךְ اور-گئی H3212	בְּשֶׁרֶף کھیت-میں H5221	וַיָּךְ اور-مارا H5221	בְּלִעָם بلعام H0853	אֶת- کو- H0853	הָאֵתוֹן گدھی H0860	לְהַטִּיחָהּ موڑنے-کو-اُسے H5186
----------------------------	---------------------------	----------------------	-----------------------------	--------------------------------	--------------------------------	------------------------------	----------------------------	----------------------	---------------------------	--

וַתִּרְכָּב:
راستہ
H1870

مارتے اُسے بلعام لگی۔ چلنے میں کھیت کر بٹ سے راستے وہ تو بے کھڑا میں راستے بوئے تھامے تلوار میں ہاتھ اپنے فرشتہ کا رب کہ دیکھا نے گدھی جب آیا۔ لے واپس پر راستے مارتے

24	וַיַּעֲמֵד اور-کھڑا-بوا H5975	מְלֹאָךְ فرشتہ H4397	יְהוָה یہوواہ H3068	בְּמִשְׁעוֹל پگڈنڈی-میں H4934	הַכְרָמִים انگوروں H3754	נָדָר دیوار H1447	מִזְבֵּחַ اِس-طرف H2088	וַנָּדָר اور-دیوار H1447	מִזְבֵּחַ: اُس-طرف H2088
----	-------------------------------------	----------------------------	---------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

کھڑا وہاں فرشتہ کا رب اب تھا۔ بند سے چار دیواری کی باغوں طرف دونوں وہ کیونکہ تھا، تنگ راستہ لگے۔ گزرنے سے درمیان کے باغوں دو کے انگور وہ پھر ہوا۔

25	וַתֵּרָא اور-دیکھا H7200	הָאֵתוֹן گدھی H0860	אֶת- کو- H0853	מְלֹאָךְ فرشتہ H4397	יְהוָה یہوواہ H3068	וַתִּלְחֹץ اور-دبی H3905	אֶל- سے- H0413	הַקִּיר دیوار H7023	וַתִּלְחֹץ اور-دبایا H3905	אֶת- کو- H0853	הַגִּל پیر H7272	בְּלִעָם بلعام
----	--------------------------------	---------------------------	----------------------	----------------------------	---------------------------	--------------------------------	----------------------	---------------------------	----------------------------------	----------------------	------------------------	-------------------

אֶל-
سے-
H0413

הַקִּיר
دیوار
H7023

וַיִּסַּף
اور-پھر-کیا
H3254

לְהַכֹּתָהּ:
مارنے-کو-اُسے
H5221

مارا۔ دوبارہ اُسے نے اُس گیا۔ کچلا پاؤں کا بلعام اور لگی، چلنے ساتھ ساتھ کے چار دیواری کر دیکھ یہ گدھی

26	וַיִּסַּף اور-پھر-کیا H3254	מְלֹאָךְ- فرشتہ- H4397	יְהוָה یہوواہ H3068	עֲבֹר گزرنا H5975	וַיַּעֲמֵד اور-کھڑا-بوا H5975	בְּמִקוֹם جگہ-میں H4725	זָר تنگ H7023	אֲשֶׁר جہاں H3905	אֵין- نہ- H0369	רָךְ راستہ H1870	לְנִטּוֹת مڑنے H5186
----	-----------------------------------	------------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	---------------------	-------------------------	-----------------------	------------------------	----------------------------

וַיִּמֵן
دائیں
H3225

وַיִּשְׁמְאוּ:
اور-بائیں
H8040

طرف۔ بائیں نہ اور طرف دائیں نہ تھی، نہیں گنجائش کوئی کی جانے بٹ سے راستے اب گیا۔ بو کھڑا میں راستے مرتبہ تیسری اور نکلا آگے فرشتہ کا رب

27	וַתֵּרָא اور-دیکھا H7200	הָאֵתוֹן گدھی H0860	אֶת- کو- H0853	מְלֹאָךְ فرشتہ H4397	יְהוָה یہوواہ H3068	וַתִּרְבֵּץ اور-لیٹ-گئی H7257	תַּחַת نیچے H8478	בְּלִעָם بلعام H2734	וַיַּחֲרֶ- اور-بھڑکا- H2734	אָף غضب H0639	בְּלִעָם بلعام H5221	וַיָּךְ اور-مارا H5221
----	--------------------------------	---------------------------	----------------------	----------------------------	---------------------------	-------------------------------------	-------------------------	----------------------------	-----------------------------------	---------------------	----------------------------	------------------------------

אֶת-
کو-
H0853

הָאֵתוֹן
گدھی
H0860

בְּמִקְלָ:
لاٹھی-سے
H4731

مارا۔ خوب سے لائھی اپنی اُسے نے اُس اور گیا، آ غصہ کو بلعام گئی۔ لیٹ وہ تو دیکھا فرشتہ کا رب نے گدھی جب

28	וַיִּפְתַּח اور-کھولا H3068	יְהוָה یہوواہ H3068	אֶת- کو- H0853	פִּי منہ H6310	הָאֵתוֹן گدھی H0860	וַתֹּאמֶר اور-کہا H0559	לְבִלְעָם بلعام-سے H4100	מִדָּ- کیا- H4100	עֲשִׂיתִי کیا-میں-نے H4100	לְךָ تجھے H4100	כִּי کہ
----	-----------------------------------	---------------------------	----------------------	----------------------	---------------------------	-------------------------------	--------------------------------	-------------------------	----------------------------------	-----------------------	------------

הַכִּיֹּתִי
مارا-ٹو-نے-مجھے
H5221

זֶה
یہ
H2088

שְׁלֹשׁ
تین
H7969

רְגָלִים:
بار
H7272

ہیں؟ رے بیٹ دفعہ تیسری اب مجھے آپ کہ بے کیا سلوک غلط کیا سے آپ نے میں کہا، سے بلعام نے اُس اور دیا، بولنے کو گدھی نے رب تب

29	וַיֹּאמֶר	בְּלַעַם	לְאֵתוֹן	כִּי	הִתְעַלְלָתָּ	בִּי	לֹא	יֵשׁ-	חֶרֶב	בְּיָדִי	כִּי
	اور-کہا	بلعام	گدھی سے	کیونکہ	مذاق-ازایا-تُو-نے	مجھے	کاش	ہوتی-	تلوار	میرے-ہاتھ-میں	کیونکہ
	H0559	H0860	H0860		H3808	H0595	H3863	H3426	H2719	H3027	

עָתָה
اب
مار-ذالتا-تجھے
[H2026](#)
[H6258](#)

دیتا! کر ذبح تجھے ابھی میں تو ہوتی تلوار میں ہاتھ میرے کاش بے! بنایا بے وقوف مجھے نے تو دیا، جواب نے بلعام

30	וַתֹּאמֶר	הָאֵתוֹן	אֶל-	בְּלַעַם	הֲלוֹא	אֲנֹכִי	אֲתָנֹךְ	אֲשֶׁר-	רַכְבְּתָּ	עָלַי	מֵעוֹדָךְ
	اور-کہا	گدھی سے	بلعام	کیا-نہ	میں	تیری-گدھی	جس-پر-	سوار-ہوا-تُو	مجھ-پر	اپنی-عمر-سے	
	H0559	H0860	H0413	H3808	H0595	H0860		H7392		H5750	

עַד-
تک-
הַיּוֹם
دن
הַזֶּה
اس
הַהֶסְכֵּן
کیا-عادت
הַהֶסְכֵּן
عادت-تھی-میری
לְעֵשׂוֹת
کرنا
לָךְ
تجھ-سے
כָּה
یوں
וַיֹּאמֶר
اور-کہا
לֹא:
نہیں
[H5704](#)
[H3117](#)
[H2088](#)
[H5532](#)
[H5532](#)
[H3541](#)
[H0559](#)
[H3808](#)

کہا، نے اُس تھی؟ عادت کی کرنے ایسا کبھی مجھے کیا ہیں؟ رے ہوتے سوار تک آج آپ پر جس ہوں نہیں گدھی کی آپ میں کیا کہا، سے بلعام نے گدھی نہیں۔

31	וַיִּגְלֵ	יְהוָה	אֶת-	עֵינָי	בְּלַעַם	וַיֵּרָא	אֶת-	מַלְאָךְ	יְהוָה	נֹצֵב	בְּדֶרֶךְ
	اور-کھولیں	یہوواہ	کو-	آنکھیں	بلعام	اور-دیکھا	کو-	فرشتہ	یہوواہ	کھڑا-ہوا	راستے-میں
	H1540	H3068	H0853			H7200	H0853	H4397	H3068	H5324	H1870

וַחֲרָבוֹ
اور-اُس-کی-تلوار
שְׁלֹפָה
کھنچی-ہوئی
אֲس-
اُس-کے-ہاتھ-میں
בִּידוֹ
اور-جھکا
וַיִּקַּד
اور-سجدہ-کیا
וַיִּשְׁתַּחֲוֶה
اپنے-منہ-پر
לְאַפָּיו:
[H2719](#)
[H8025](#)
[H3027](#)
[H6915](#)
[H7812](#)
[H0639](#)

کر گر بل کے منہ نے بلعام تھا۔ کھڑا میں راستے ہوئے تھامے تلوار میں ہاتھ تک اب جو دیکھا کو فرشتے کے رب نے اُس اور کھولیں آنکھیں کی بلعام نے رب پھر کیا۔سجدہ

32	וַיֹּאמֶר	אֵלָיו	מַלְאָךְ	יְהוָה	עַל-	מָה	הַכִּיֹּת	אֶת-	אֲתָנֹךְ	זֶה	שְׁלוֹשׁ	רְגְלָיִם
	اور-کہا	اُسے	فرشتہ	یہوواہ	کیوں-	کیا	مارا-تُو-نے	کو-	اپنی-گدھی	یہ	تین	بار
	H0559	H0413	H4397	H3068		H4100	H5221	H0853	H0860	H2088	H7969	H7272

הֲנֵה
دیکھو
אֲנֹכִי
میں
יֵצְאָתִי
نکلا-ہوں
לְשֹׁטָן
مخالف-بن-کر
כִּי-
کیونکہ-
יָרַט
خطرناک-ہے
הִדְרָךְ
راستہ
לְנֹדְדִי:
[H2009](#)
[H0595](#)
[H3318](#)
[H7854](#)
[H1870](#)
[H5048](#)

بے بُرا انجام کا اُس بے ربا بڑھ تو طرف جس کیونکہ ہوں، آیا میں مقابلے تیرے میں پیٹا؟ کیوں کو گدھی اپنی بار تین نے تو پوچھا، نے فرشتے کے رب

33	וַתֵּרָא	הָאֵתוֹן	וַתַּט	לְפָנָי	זֶה	שְׁלוֹשׁ	רְגְלָיִם	אוּלַי	נִטְתָּה	מִפְנֵי
	اور-دیکھا-مجھے	گدھی	اور-مڑی	میرے-سامنے-سے	یہ	تین	بار	شاید	مڑی-ہوتی	میرے-سامنے-سے
	H7200	H0860	H5186	H6440	H2088	H7969	H7272	H0194	H5186	H6440

כִּי
کیونکہ
עָתָה
اب
גַם-
تجھے
אֲחֻבָה
مار-ذالتا
הַרְגָתִי
اور-اُسے
וְאוֹתָהּ
بچاتا
הַחַיִּיתִי:
[H6258](#)
[H1571](#)
[H0853](#)
[H2026](#)
[H0853](#)
[H2421](#)

دیتا۔ چھوڑ کو گدھی میں اگرچہ ہوتا گیا ہو بلاک وقت اس تو ہتھی نہ وہ اگر گئی۔ ہٹ سے طرف میری کر دیکھ مجھے مرتبہ تین گدھی

40
 וַיִּזְבַּח וַיִּזְבַּח וַיִּזְבַּח וַיִּזְבַּח וַיִּזְבַּח וַיִּזְבַּח וַיִּזְבַּח
 اور-ذبح-کیا اور-ذبح-کیا اور-ذبح-کیا اور-ذبح-کیا اور-ذبح-کیا اور-ذبح-کیا اور-ذبح-کیا
 H2076 H1111 H1241 H6629 H7971 H8269 H0854

دیا۔ دے کو سرداروں والے ساتھ کے اُس اور بلعام سے میں گوشت کے اُن کے کر قربان بھیڑبکریاں اور گائے بیل نے بلق وہاں

41
 וַיְהִי וַיְהִי וַיְהִי וַיְהִי וַיְהִי וַיְהִי וַיְהִי
 اور-ہوا اور-ہوا اور-ہوا اور-ہوا اور-ہوا اور-ہوا اور-ہوا
 H1961 H1242 H3947 H1111 H0853 H5927 H1120 H7200 H8033

ہے:
 قوم

تھا۔ آتا نظر کنارہ کا گاہ خیمہ اسرائیلی سے وہاں تھا۔ بلع باموت نام کا جس گیا چڑھ پر جگہ اونچی ایک کر لے ساتھ کو بلعام بلق صبح اگلی